

33709 - کمپنی ملازمین کو سودی قرض دیتی ہے

سوال

ایک کمپنی اپنے ملازمین کو قرض دیتی ہے، جو بنک سے جائداد کی مد میں ملتا ہے، قرض پر لگنے والا سود کمپنی ادا کرتی ہے، اور ملازم کو قرض پر کچھ ٹیکس حکومت کو ادا کرنا پڑتے ہیں، اصل پر کوئی ٹیکس نہیں، تو کیا ملازمین کے لیے یہ قرض حلال ہے کہ نہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ملازمین کے لیے یہ قرض لینا جائز نہیں، حالانکہ - حقیقت میں - وہ معاہدے کے ایک فریق ہیں، اور سنت نبویہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے اور اسے لکھنے اور دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور اور سود کھلانے اور اسے لکھنے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا: وہ سب برابر ہیں" صحیح مسلم حدیث نمبر (1598) .

ظاہر ہے کہ کمپنی قرض اس وقت تک نہیں لیتی جب تک وہ اس قرض کے حصول میں ملازم کی رغبت کی درخواست وصول نہ کرلے، لہذا ملازم کمپنی کے ساتھ سودی قرض کے حصول میں متعاون ہے اور اس کا سبب ہی وہ خود ہے۔

حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو المائدة (2) .

لہذا ملازمین پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس قرض سے بے پرواہ اور مستغنی ہو جائیں، اور اسے ترک کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی نیت رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کے چھوڑنے کے عوض میں بہتر اور اچھی چیز مہیا کر دے۔

والله اعلم .